

بچوں کے لئے بائبل
تحائف



اکھ زون یُس
خداؤندن سوز



تصنیف کردہ : Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت : Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

کے مطابق : E. Frischbutter; Sarah S.

ترجمہ کردہ : www.christian-translation.com


کی طرف سے تیار : Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

لائنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



خداوند سندس عبادت خانس مئز اویس
اکه ذکریا ناوک ... کاهن ... مشکه
تُجھ زالان - نیبری کنی اُسی لؤکھ عبادت
کران - اچانک آو ذکریا ووکراونہ -



اکھ فرشتہ اوس آمت "کھوڑیو مه" تھی وون۔ "بے سورس خداين۔ چانہ آشنه زیو اکھ
گوبُر۔ ناو گرزپس جان۔ سُه آسِ زینہ پانی پیٹھرے مقدس روح یستی بُرتھ۔ سُه پھر
بسیار لُکن خداوندس گُن۔"



"ذکریا آسِی یستی گریو" کته۔ نیبری کنی آسی لوکھ حاران۔ تمن کتھ آس خبر
ز جبریل کیا وون ذکریا پس۔ یہ ز ذکریا ہیکنہ کھینچ کتھ
گرتھ۔ بیتس کالس نہ تس نیچو زیو۔ تکیاز
تمس اس نہ پڑھے خدایہ سندس پیغامس پڑھے۔
تمس اوں خیال ز بیٹھ وانسٹھ
زنانہ کتھ زیو شر۔



گر واتِته لیوکه ذکریا بن ته سورے یه فرشتن
بوؤس - تستز آشنى الزربته (الیشیبَع) اُس وسان -
سو اُس واریاھ کاله پیٹھ بچه سند باپته دعا
منگان - کیاھ یه ہیکیاھ وونی ممکن سپدِتھ -



پته زون الزبته ز بچه چھه ينه
وول. تمه کور خداوند سُند
شُکر. اکم دوّبه آیه الزِبته هنر
پٽر میری تمن سمکهنه.
میری ته آس بییه زوو.



بیلہ مریم اور واٹر الزِبْتَه (الیشیع) باسیو زِ اُمسنڈس شِکمس منز
موجود بچن تُجھِ ووٹِی - الیشیع اندر اوس مُقدس روح - تمِ زون
زِ مریم ہنڑِ کوچھِ منز چُھ پانِ خدا یسوع مسیح - دوشوپیو
خوتونو کور خوش گئرته خدایہ
سُند شُکر و ثناہ -




الیشیع زاو خدایه سُندِ یزهنه اوولاد. امس
ونو مآلی سُندی پاٹھی ذکریاہ. باقی
حاضر وون. ذکریاہس پیو خدا سُند حکم
ژپس. نه. امس بچہ سُند ناو چھ جان۔
ییله زکریاہن تم لفظ ؤنی تس آیہ زیو واپس.
امہ پتہ کور تئی خدایه سُند شُکر۔



یئلە جانَ بُوْد پهن گو سُه اوس زنتِه (عالیجاه)
خدا سُند عظیم انسان - جانَ وون لوکن زِ
تمن رحمت بخشنِه باپته چُھ ولی مسیح ینه
وول - یهودی زٹھی اُسی جانسَ یه وننِه باپته
نفرت کران زِ توبہ گریو - گناه کرنی ترأیو -
تم اُسی نِه پننِن گونهن وُچھته لرزان -



باقی کینهه آسی امس بپسمه یعنی نجات دنے وول جان ونان. تکیا ز سه اوں لوکن
آبس منز غوط دوان. یه باور کرنے خاطره ز تمن چھ پنین گونهن پیٹھ افسوس. اکھ
دوہه آو مسیع ته جانس نشہ. ہر
میته دسا بپسمه. جانن کور اتھ
پیٹھ احتجاج مگر یسوع عن وونس
ڑ کر یہ (بے ونس) جان دیوت
امس ته نجات.



یسُوعَ سُندِ پیتسمه پتهٗ وُچه
جاننَ زِ اکھ مقدس روح آو
یسُوعَسَ پیٹھه اکس کوکلِہ بُنِر
شکلِه. یه اُس خداوند سُنِر
نشانی. جان اوں زاناں زِ
یسُوعَ چُھ خداوند سُند نیچو.
جاننَ وون یسُوعَس خداوند
سُند کٹِه مونگر. یُس سارے
دنیاہکو گناه گالان چُھ.



جانَّ پھری واریاہ لوکھ خدایس کُن۔ مگر اکو کمین حکمران ہیروَدَن بنوو سُه
بائِندی۔ یہ چُھ گناہ۔ ژتے بناؤتھن پئنی بائے کاکنی ہیروَدَیس پئنی آشنا۔ جانَ وون

یہ ہیروَدَ ہس۔ ہیروَدَ اوں زانتھ یہ چُھ
پَزرونان۔ تس اُس خبرِ جانَ چُھ
خدا وند سُند بِنِدِ اکھ انصاف پَرور
تِم مقدس مذہبی بُزرگ۔ مگر سُه اوں
نِم گناہ نشمِ لوب ہیون یزھان تِم جانَ
اوں نِم گنھن خلاف بولنِم نشمِ پتھ
ہیون یزھان یودو مے بائِندی
وان تِم اُن پییہ ہس۔




پنیس زینه دوھس پیٹھ کور ہیروَدن اکه بجه تقریبہ ہند سنر۔ ہیروڈايس سنر کور کور اته موقس پیٹھ کھلے ڈولے نڑناه۔ ہیروَد سپُد بڈ خوش۔ "ون ڙئے کیاھ گھی۔ ہیروَدن دیوتُس وعده میانی نصف سلطنت ترے ہیکھ منگتھ۔"



"بِہ کیاہ منگے۔" امِہ
کورِ کور تعجب۔ پنٹِ بد
ما جِہ ہیرو دایسِ یس جانَ
سنُز دے اُس سمجھا و زِ
سو کیاہ منگے۔ یہ اوں
سخ تربذب۔



"تیلہ دیو مرے پیتسمه کرن والیں ہیروڈ سُند کلہ
اکس تھالہ منز۔" امہ کور وون ہیرودس۔ تس گو
پنیس دنے آمتیس وعدس پیٹھ افسوس۔ مگر پنہ
کبڑ کنی رود پنیس وعدس پیٹھ ڈٹتھ۔ "ژٹیو جان
سُند کلہ تہ ائیو مرے برونہ کُن۔"
ہیرودان دیوت حکم۔ تسندیو
سیپھو اون حکم بامل۔



جانَ سُنْدِیو یارو دَفْنوو خدا
وند سُنْدِس بِهادُر تِه وفادار
بنِدِ سُنْدِ جسم سِيَّطِه هَيَ
دوکهِ تِه ملاَلِه سان. خدا
وند سُنْدِ باپته جانَ سُنْزِ کام
واَزْ اَنَد. شاید اَسَى تم زانان
زِ يسوعَ دِيَه اتھ دوکھس مُنْزِ
تِمنِ تسلی.



اکھر زون یُس خداوندن سوز

خدا کرے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

مارک 6، لیوک 1، 3

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوٹے بیٹھے، یسوع کو، صلیب پر منزے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے منزے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمين۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 16:3

